

برائے فوری اجراء

## سٹی بزرگ افراد کے لیے \$15 برامپٹن ٹرانزٹ پاس کا آغاز 1 ستمبر سے کر رہا ہے

برامپٹن، آن (5 جولائی 2019) – آج میئر پیٹرک براؤن نے برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے \$15 سینئرز برامپٹن ٹرانزٹ پاس کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔

ملک کے تیز ترین بڑھوتری کے حامل شہروں میں سے ایک کی خدمت میں مصروف عمل برامپٹن ٹرانزٹ، برامپٹن کے بزرگ افراد جن کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہو، کے لیے ایک رعایتی \$15 ماہانہ پاس متعارف کروا رہی ہے۔ یہ رعایتی ماہانہ پاس 6 اگست سے تمام برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز اور سہولت گاہوں پر فروخت کے لیے دستیاب ہو گا اور بزرگ افراد اپنے اس ماہوار پاس کو 1 ستمبر سے اپنے سفر کے لیے استعمال کر سکیں گے۔

مورخہ 6 اگست سے اپنے آغاز کے بعد برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے سٹی ہال اور گور میڈوز کمیونٹی سنٹر میں عارضی سنٹر قائم کیے جائیں جہاں سے بزرگ افراد اپنے برامپٹن ٹرانزٹ سینئر آئی ڈی کارڈ، پریسٹو کارڈ اور اپنے سینئرز برامپٹن ٹرانزٹ پاس حاصل کر سکیں گے۔

ماہانہ پاس کی مدد سے بزرگ افراد اس تقویمی مہینے کے دوران لامحدود طور پر سفر کر سکیں گے۔ ٹرانزٹ پاس حاصل کرنے کے لیے برامپٹن کے بزرگ افراد کے پاس برامپٹن ٹرانزٹ کا بطور سینئر ایک قابل قبول شناختی کارڈ اور پریسٹو کارڈ لازمی طور پر موجود ہونا چاہیے۔

مورخہ 1 ستمبر کے بعد برامپٹن کے بزرگ افراد کے لیے پریسٹو پر \$1 نقد کرایہ کی سہولت بھی دستیاب ہو گی۔ بزرگ افراد کے لیے موجودہ طور پر دستیاب عمومی ہفتہ وار اور ماہوار پاس اس کے بعد دستیاب نہیں رہیں گے۔

برامپٹن ٹرانزٹ مناسب قیمت پر نقل و حرکت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پُر عزم ہے۔ برامپٹن 2040 ویژن کے لیے کونسل کی ترجیحات کی بنیاد پر 2020 کے لیے بجٹ سازی کی کارروائی کے دوران کونسل کا عملہ ایک رپورٹ پیش کرے گا جس میں برامپٹن کے بزرگ افراد کے لیے مفت کرایہ کے حوالے سے مختلف آپشنز پر روشنی ڈالی جائے گی۔

مکمل تفصیلات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

### اقتباسات

"برامپٹن کے 2040 ویژن اور برامپٹن کو ایک سر سبز و شاداد شہر بنانے کی جانب اپنے سفر میں ہم نہ صرف نقل و حرکت کی ایک مؤثر سروس فراہم کرنے کے لیے پُر عزم ہیں بلکہ ہم ذاتی گاڑی چلانے کا ایک قابل بھروسہ متبادل ذریعہ فراہم کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ اپنے بزرگ افراد کو 2020 میں نقل و حرکت کی مفت سہولت فراہم کرنا ہمارے اگلے ہدف میں شامل ہے۔ ہمارے بزرگ افراد نے ہمارے شہر کو بنایا ہے اور ٹرانزٹ پاس کی مفت فراہمی ان کی خدمات کا صرف ایک صلہ ہے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"برامپٹن ٹرانزٹ اپنی سروس اور اپنے گاہکوں کے مجموعی تجربہ میں بہتری لانے کے لیے مسلسل کوشش اور کام کر رہی ہے۔ برامپٹن کے بزرگ افراد کے لیے اس پاس کا آغاز 2019 کے لیے ہمارے کسٹمر چارٹر کے کئی ایسے کاموں میں سے ایک ہے جن کو عملہ جامہ پہنانے کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں۔ ہم اپنے بزرگ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ٹرانزٹ پر سفر کریں اور ہماری بسوں پر سفر کی سہولت کا تجربہ کریں۔"

- ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، ٹرانزٹ

"برامپٹن سٹی کونسل نے شہر میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 2050 تک 80% تک کمی کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ چونکہ ہم اس حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور بہتر ماحول دوست پالیسیوں اور شاندرار ٹیکنالوجیز کے استعمال کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس پر عمل درآمد کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی عوامی نقل و حمل کے ذرائع زیادہ استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی گاڑیوں پر انحصار کو کم کریں۔ میں اپنے بزرگ افراد کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ وہ نئے \$15 ماہانہ پاس کی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں اور ایک فعال زندگی کا لطف اٹھائیں۔ شہر کا سفر اور لوگوں سے ملاقات پر جانے کے علاوہ دلچسپ مقامات اور تقریبات میں شرکت کرنے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک بہترین موقع ہے۔"

- کونسلر رووینہ سینٹوس، چیئر، کمیونٹی سروسز

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)